

برامپٹن فارمرز مارکیٹ 11 جون کو شروع ہو رہی ہے

برامپٹن، آن (26 مئی 2022) – میریڈیٹن کریڈٹ یونین کی جانب سے پیش کی جانے والی سٹی آف برامپٹن کی 2022 کے سیزن کے لیے سالانہ فارمرز مارکیٹ 11 جون سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہفتہ وار مارکیٹ ہر ہفتہ کے دن صبح 8 بجے سے دن 1 بجے تک لگے گی اور 8 اکتوبر تک چلے گی، موسم جیسا بھی ہو۔ اس سال، یہ ہر دلغیز مارکیٹ ویلنگٹن اسٹریٹ پر جارج اسٹریٹ اور مین اسٹریٹ ساؤتھ کے درمیان اور گیج پارک میں لگے گی۔

یہ سیزن ایک ہفتہ وار ایونٹ کا وعدہ کرتا ہے، جس سے ہر کوئی لطف اندوز ہو گا اور اس میں شامل ہیں:

- مارکیٹ کے پسندیدہ کسانوں، دکانداروں اور مقامی کاریگروں کی واپسی جو تازہ پیداوار اور ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء پیش کرتے ہیں۔
- برامپٹن فوک کلب، بی جازڈ، ڈی جے جوناتھن شا اور دیگر ہر دلغیز فنکاروں کی جانب سے بینڈ اسٹینڈ سے براہ راست تفریح؛
- سٹی آف برامپٹن کی آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی (ACCIDA) کی جانب سے موقع پر آرٹ کی سرگرمیاں؛ اور
- مزید بہت کچھ!

ڈاون ٹاؤن برامپٹن میں زبردست تبدیلیوں کا عمل جاری ہے

ڈاون ٹاؤن برامپٹن کچھ مفید تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ریجن آف پبل اس جگہ میں واٹر مین اور سینیٹری سیوریج کو تبدیل کرنے کے منصوبے کی قیادت کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے کئی سڑکیں عارضی طور پر بند ہو سکتی ہیں۔ براہ کرم مارکیٹ کی طرف جاتے وقت تھوڑا پہلے نکلیں۔

میونسپل پارکنگ کے بارے میں اپ ڈیٹس brampton.ca پر مل سکتی ہیں یا پھر برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے تشریف لے جائیں۔ اپنے سفر کا پیشگی منصوبہ Triplinx کے ساتھ بنائیں۔

2022 برامپٹن فارمرز مارکیٹ کو الگوما یونیورسٹی، بورڈ واک، فلیٹو ڈویلپمنٹس، ریویرا اور ٹورانٹو بیئرسن نے فراخدلی سے اسپانسر کیا ہے۔

اس سیزن کے ویبڈرز اور پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے brampton.ca/markets پر جائیں۔

اقتباسات

"برامپٹن فارمرز مارکیٹ کی سالانہ واپسی موسم گرما کے غیر سرکاری آغاز کی نشاندہی کرتی ہے! برامپٹن کی یہ پسندیدہ مارکیٹ ہماری کمیونٹی کو اکٹھا کرتی ہے اور یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا میں ہر سال انتظار کرتا ہوں۔ 11 جون کے لیے اپنے کیلنڈرز کو نشان زد کر لیں۔ آپ سے وہیں پر ملاقات ہو گی!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"میں برامپٹن فارمرز مارکیٹ کی واپسی کو دیکھ کر بہت پرجوش ہوں اور اپنی کمیونٹی اور مقامی چھوٹے کاروباروں کی خوشیاں منانے کا منتظر ہوں۔ اس موسمی پسندیدہ مارکیٹ کی حمایت جاری رکھنے کے لیے ہمارے فیاضانہ اسپانسرز کا بہت شکریہ!"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"جبکہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کچھ دلچسپ تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مقامی دکانداروں اور کاروباروں کو سپورٹ کریں۔ سٹی آف برامپٹن کی ٹیم نے ایک شاندار سیزن کا منصوبہ بنایا ہے جس میں مختلف پیشکشیں اور تفریحات شامل ہیں جن سے پوری برامپٹن کمیونٹی یقینی طور پر لطف اندوز ہو گی۔"

- پال موريسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca